



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2022/12/6

گورنر HOCHUL کی جانب سے ناپسندیدہ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کو روکنے کے لیے قانون سازی پر دستخط

مسودہ قانون (S.8450-B/A.8319-C) ٹیلی فون پر تشہیر کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صارفین کو فون کالوں کے آغاز میں کمپنی کی کال نہ کرنے کی فہرست میں شامل ہونے کا اختیار دیں

گورنر Kathy Hochul نے آج ناپسندیدہ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کو روکنے کے مسودہ قانون پر دستخط کر دیئے ہیں۔ مسودہ قانون (S.8450-B/A.8319-C) ٹیلی فون پر مصنوعات کی تشہیر کرنے والے اداروں کو کچھ کالوں کے آغاز میں ہی صارفین کو کمپنی کی کال نہ کرنے کی فہرست میں شامل ہونے کا اختیار دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ نئی قانون سازی نیو یارک کے مکینوں کو مسلسل ناپسندیدہ کالوں سے بچانے میں مدد کرے گی۔

گورنر Hochul نے کہا، "ہم نیو یارک کے مکینوں کو غیر مطلوب ٹیلی مارکیٹنگ کالوں سے نجات دلانے کے لیے اپنی کوششیں بڑھا رہے ہیں۔ بہت طویل عرصے سے، نیو یارک کے مکینوں کو ان پریشان کن کالوں کا سامنا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ٹیلی مارکیٹنگ کرنے والوں کی اس فہرست، جس میں کال نہ کیے جانے کا انتخاب کرنے والے افراد ہوں، میں شامل ہو کر ان رابطوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ نئی قانون سازی نیو یارک کے مکینوں کو مایوس کن، ناپسندیدہ کالیں موصول ہونے سے بچائے گی تاکہ کال نہ کرنے کی فہرستوں پر بہتر معلومات فراہم کی جائیں۔"

مسودہ قانون (S.8450-B/A.8319-C) ٹیلی فون پر مصنوعات فروخت کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صارفین کو یہ اختیار دیں کہ وہ کچھ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کے شروع میں، ٹیلی مارکیٹر کا نام اور نمائندے کا نام فراہم کرنے کے بعد، کمپنی کی کال نہ کیے جانے والوں کی فہرست میں شامل ہونے کا انتخاب کر لیں۔ موجودہ قانون کے تحت، ٹیلی مارکیٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراد کو مطلع کریں کہ وہ ان کی کمپنی کی کال نہ کیے جانے والوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ البتہ، صارفین عام طور پر ٹیلی مارکیٹر یا ریکارڈنگ میں "کال مت کریں" لسٹ کا ذکر کرنے سے پہلے ہی فون بند کر دیتے ہیں، جس سے ٹیلی مارکیٹرز انہیں بار بار کال کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی مارکیٹنگ کالوں کے آغاز پر صارفین کو کال نہ کرنے کی فہرست کی معلومات دے کر، یہ قانون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ نیو یارک کے مکین مسلسل، ناپسندیدہ کالوں سے محفوظ ہیں۔

ریاستی سینیٹر Jeremy Cooney نے کہا، "چونکہ پریشان کن کالوں کی تعدد مسلسل بڑھ رہی ہے، ہم نیویارک کے شہریوں کو مسلسل ناپسندیدہ کالوں سے بچانے کے لیے مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت طویل عرصے تک ٹیلی مارکیٹرز نے اسکرپٹ کے آخر میں کال نہ کیے جانے والوں کی لسٹ میں اندراج کے اختیارات کو دفن کرنے کے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے؛ جو اب رک گیا ہے۔ میں رکن اسمبلی Paulin کی شراکت اور گورنر Hochul کی حمایت کا شکر گزار ہوں جبکہ ہم نیو یارک کے رہائشیوں کو بامعنی تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔"

رکن اسمبلی Amy Paulin نے کہا، "روبوٹ کی جانب سے کالیں روزانہ کی پریشانی ہیں اور لوگوں یا علاقوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ ٹیلی مارکیٹرز سے تقاضہ کرتے ہوئے کہ وہ کال کے آغاز میں لوگوں کو مطلع کریں کہ انہیں کال نہ کیے جانے والوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، ہم اس وسیع مسئلے کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ اس اقدام کے بغیر، زیادہ تر لوگ اس وقت تک فون بند کر چکے ہوں گے جب تک انہیں اطلاع دی جائے گی کہ انہیں فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس مسودہ قانون کی ریاست نیو یارک کے سینیٹر

Jeremy Cooney کے ساتھ مل کر حمایت کر رہی ہوں اور میں گورنر Hochul کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نیو یارک کے مکینوں کو روبوکالز کی مسلسل لعنت سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے یہ اقدام کیا ہے۔"

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418